

نہر کی صدائیں (بلوچی)



گورۂ توار

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوبلال

دامت برکاتہم
العتشالیہ

محمد الیاس عطاء قادری رضوی

کورِ توار

اے رسالہ ”نہر کی صدائیں“ شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی **اَمَّا بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** اردو زبان ء تہا است۔

مجلس شعبہ تراجم (دعوت اسلامی) اے رسالہ ء آسان بلوچی زبان تہا کننگیں باز شریں کوشش کت۔ اگاہ اے ترجمہ تہا یا کمپوزنگ تہا غلطی ء بی شما مجلس تراجمہ ضرور بہ آگاہ کنے، اور ثواب حقہ اریہ۔

پیشکش: مجلسِ تراجم (دعوتِ اسلامی)

رابطہ ء واسطہ

مکتب مجلس تراجم (دعوت اسلامی) عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ محلہ سوداگراں کابنہ سبزی منڈی باب المدینہ کراچی۔

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92-Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کُورِ تَوَار¹

گزارش: شیطان تہی دل تہا ہزار وسوساں پیدا کنت بلے شہاءِ رسالہ پورا
 مکمل والے شیطانء نامراد و ناکام یکنے۔

مُہرگ والاتاج

القول البدیعؒ تہا آست کہ وفات بعد حضرت سیدنا ابوالعباس احمد بن منصور علیہ السلام حضرت محمدؐ اللہ العفو
 اہل شیراز مردمان تہا یک مرد آدم و تی واب تہا یک بزرگ زیارت کاں آئیے سرامہرگ و
 دانگ والا خو بصورت یک تاج بی اور اشیا جنتی پوشاک گوارا شیرازے یک مسیتء محرابء تہا
 اُستائتا واب چاروکء بزرگ چے جست (پول) کاں **مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟** یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ترا گوں
 چے معاملہ کُو؟

بزرگ جواب داں کہ ماں بے حساب درود پاک و انگے وَجَّہ بختک بُوتال اور ہے دورود
 پاک مَنی مغفرت و نجاتء ذریعہء بُوت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ مَنی مغفرت فرمانت مَنی سرامہرگ و
 دانگ والا تاج سرا دیگ بُوت اور بہشتء تہا داخل فرمانتا۔ (القول البدیع ص 245)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

¹ اے بیان امیر اہلسنت **دَاعَتْ بَرَكَاتُھُمْ الْعَالِیَہ** شارجہ شہ مدینۃ الاولیاء ملتان تہا (۱۷ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۸ھ /

20-09-1997 بذریعہ ٹیلیفون کت۔ کے اور اضافہ گوں لکھائی تہا حاضرین۔ مجلس مکتبۃ المدینہ

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے نہیں سرا یک واری درود پاک وانی اللہ ہمائی سرادہ رحمت نازل کنت (مسلم)

وشیں و شیں اسلامی براتوں! حضرت سیدنا کعب بن احبار رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یک عظیم تابعی بزرگ بوتا اسلام تھا داخل بیا گا چے بیشتر یہودی مذہب یک شرّ زبردست عالم بوتا بزرگ و مزار شریف فائض الانوار متحدہ عرب امارات ریاست ابو ظہبی و دار الخلافہ العین و شریف موجود۔

و بزرگ و گفت و کہ بنی اسرائیل و یک مرد آدم توبہ کنناں گے رندیک زنا کار بدکار زالاگوں و قی دست و دیمیاں سیاہ کاں۔ و گناہ رندیک کور تھا غسل و نیتا کور و تھا جان و شود گا رو کہ آنا گے یک توار کور چے چست بی کہ ترا کسے لے نبی چے توء و وعدہ کلتا کہ ما دیگے رند و پیمے کار نکاتاں۔ و توار گوش دارگ رند و مرد آدم و حالت بعض خراب بی و قی اختیار چے در بی۔ گروگ و وزراء گئی پدا سئی (فرار بوت) اور بھی گشی کہ دیگے رند ما و قی رب اللہ عَزَّوَجَلَّ نافرمانی نکاتاں۔

اے مرد آدم و قی ندامت و فکر تھا و قی سر ازیری یک کورہ سرار و۔ اودا ایشیا چے بیشتر دوازدہ (۱۲) مردم آدم عبادت الہی مصروف بیاں۔ و گنا کار مرد آدم ہمیشاں گوں عبادت گوں کپی۔ کئی عرصہ و رند ادا ایشیاں و ردن ختم بیاں تو اے نیک مرد آدم و قی و ردن تلاش شہر نیگا در کپاں و گناہ کار مرد آدم بی ہیشا گوں کپی۔ اتفاق و چے و قافلہ ہما کور نیمہ کار و گا لگی تو و گناہ مرد آدم ترس و لرز گوسی کہ ماں و کورے نیمگا تر و اں کہ اودا منی گناہ فی زانتکار موجود و منا آتا گوں لے و شرم کئے و مرد آدم و تاداری و دوازدہ و نیک مرد آدم کور سرار و اں۔ کور اچے پدا یک توار کئے و نیک مرد آدم شمی سگت کجائیں؟ و جواب دیاں کہ و مرد آدم جو میے ہمارے گشی کہ ادا منی یک گناہ فی زانت کار موجود و منا آتا چے لے و شرم کئے۔

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے میں سر اور دوواںگ شمشتا ہائیاں جنت و رستہ شمشتا۔ (طبرانی)

کُور چے پدَا توار کئے سُبْحَنَ اللہ! اگا شو مئے عزیز و سنگت شو مارا دُکھ و تکلیف بیداں اور ایے رندء لُج شرم شُمارا چے معذرت بیکان معانی طلب بیکان اور دیگے دُرست گناہاں چے توبہ بیکان وتی بد عادت و کردارء یلا بیداں بلکل ہی ختم بیکان ایا چے رند شو مئے ایا گوں سنگتی و صلح صفائی نمی؟ شو ما بیزانے کہ شو مئے سنگتا توبہ کُت ء نیک مر دُمانی صُحبت گوں کپت ایا وتی رب راضی کو اور ایے رَبّ ایا گوں راضی بیت۔

ایا اڈا توار بیکئے شُمارا رست ہمداء کُورے کر اعبادت زکرو اڈکار بیکئے۔ اشاں وتی سنگتا خوشخبری داسا اور اے درست کورے کر اعبادت ء مشغول بوت۔ کئی رُوح ء رند ء مرد آدم وفات کاں ایشے وفات ء چہ کُور چہ یک توار چست بی کہ ء نیک مرد آدم ء منی آپا چے غسل بیدے اور منی کر اہی ایشاد فن بیکئے تاکہ قیامت رُوحا منی ہی کر اچے چست نہی۔ کُور گُوشک یعنی توار مطابق ء نیک مرد آدم آنچو کنناں۔ شپ ء نیک مرد ایشے تَرَبّت ء کر اعبادت کُنناں ہمداء ہی و اب کپاں صُحبے سرا اڈا چے رواگے ارادہ کنناں۔

بلے صُحبا جب ء جا بڑاں چماں بچچ کنناں اِشاں مزار ء کر گُورا دُودا زده (۱۲) بلائے مچ جا کایاں ء نہی سمجھاں کہ ء مچ اللہ عَزَّوَجَلَّ مئے خاطر پیدا کوتاں تاکہ نادیکے نیما گا مروے اور نہی نیک مرد آدم ء مزار سایہ گوں زندگی ء دیکے رُوحا بُوگوا زنی۔ ایشے رند ایے دُرست بزرگ ہمداء عبادت ء تہا مصروف بیاں۔ اِشانی تہا اگا کسے وفات بی تُو اِشیا نہی بزرگ ء سایہ گوں دفن کنناں۔ تہے وڑا ء درست نیک ء مرد آدم ہمداء وفات کنناں دُرستیاں نہی بزرگ ء مزار سایہ گادفن کنناں۔ وفات ء رند بنی اسرائیل ء مالک اِشانی مزار ء زیارت ء خاطر اِشانی مزار ء حاضری فیض و برکت ء رُورگ خاطر رواں

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : کہ میں سرِ صبحِ داہ واری اور شامِ داہ واری درود وانی اشیا قیامت و روج میں شفاعت ملی۔ (مجمع الزوائد)

کامیاں اور حاضری دیاں۔ (کتاب التَّوْبِین ص 90) اللہ عَزَّوَجَلَّ اشانی سرِ رحمت بیکان اور اشانی صدقہ مئے بے حساب مغفرت بیکان۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

اللہ تعالیٰ چار گائے (گند گئی)

وشیں و شیں اسلامی براتیں! شُمارِ گوش دَاش کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ چکا مہربان و کریمؑ کہ
اگا یک انسان گناہِ رند توبہ کاں اللہ عَزَّوَجَلَّ آتا ہے بعض خوش بی آئے گناہاں معاف کاں
بشرط کہ انسان صدق دل ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے توبہ و زاری بیکان۔

درس: ایسے قصہ تھا یکہ درس و سبق مارا شُمارا رسی کہ اگا انسان ہزار پردہ تھا گناہ
بیکان بلے اللہ عَزَّوَجَلَّ آئے درست گناہاں ہے خبر دار۔ اور اے بہ معلوم بت کہ
بزرگان دین و مزارات سرِ احاضری خاطر روگ سلسلہ پیشی امتانی تھا بہ است۔

بار بار توبہ و زاری کنگ لوٹی

وشیں و شیں اسلامی براتیں! اگا کسی ہے گنا سرزد بی تُوئے اللہؑ بارگاہ توبہ و
زاری بیکان۔ اگا بقضائے بشریت پدا گناہ بی تو پدا توبہ بیکان۔ اگا پدا خطا بی تو پدا
توبہ بیکان۔ اللہؑ رَحْمَتا ہے کدِ مایوس مبی کہ اللہؑ رَحْمَت باز مزنیں۔ اللہؑ معاف
کنگا ہے ایسے رَحْمَتِ اِنج نقصان نمی۔ بس مارا شُمارا اللہؑ بارگاہ ہر وقت توبہ و زاری

فرمانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کہے کہ اُمّیں ذکرِ بیت اور اشیا میں سر اور دہ و انتا اشیا مانگوں جفاکت۔
(عبدالرزاق)

ء سلسلہ جاری کنگ لُوئی۔ فرمانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تھا اُسْت کہ "اَلْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَہُ" یعنی گنہاں چے توبہ کُنُو کے اِنسان اُنچو کہ گویا اِیّا گناہ کُتا ہی نہ

(ابن ماجہ ج 4 ص 491 حدیث 4250)

معلوم بت کہ توبہ زاری کنگ والی مردم درست گناہ مٹانگ بیاں۔ بہر حال مارا شمارا اللہ عَزَّوَجَلَّ بارگاہ سر بسجود بیگ لُوئی رَحْمَتِ الہی چے کدِی مایوس بیگ نلوئی۔

چے صرف نیک مردم جنتا داخل بیاں؟

وشیں و شیں اسلامی براتاں! رَحْمَتِ (گپ) ٹوک آتکا من اے عرض بہ کنا کہ بعض مردم نادانی تھا ہئے گپ جاں ہئے خیال کاں کہ صرف نیک عمل سنگا چے جنتا داخل بی جو گناہ کاں یا گناہ گارے آں دوزخِ حق دارے، رَحْمَتِ گوں بخشش والی ٹوک (گپ) مئے سمجھ نہ کئے۔۔۔ یقینا اے شیطان ء و سوسہ ء۔ ورنہ من وتی طرفاشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ رَحْمَتِ ٹوک (گپ) کجا کنگاں، اٹکن۔۔۔۔۔ اٹکن۔۔۔۔۔! اللہ وتی رَحْمَتِ چے وتی مردماں چوں بخشش بیاے قرآن چے گوش دارے کہ اللہ وتی رَحْمَتِ چے متعلق چے ارشاد فرمائینی اللہ عَزَّوَجَلَّ پارہ ۲۴ سورہ الزمر آیت ۵۳ تھا ارشاد فرمائینی

ترجمہ کنز الایمان ٹوگلش: مَنی ء مردماں ہرچہ کہ ء (نافرمانیانی ذریعہ) وتی جان ء سرا زیادتی کُتا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ رَحْمَتِ چے ناامید و مایوس بیاں۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ دُرست گنہاں معاف کاں۔ بے شک اللہ معاف کنوک و مہربان ء۔

قُلْ یٰۤاَعْبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا ۚ اِنَّہٗ ہُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ﴿۴۰﴾

فرمانِ مُصطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے میں سر اجمہ روحِ درودوانی من قیامت روچا اشی شفاعت کتنا۔
(کنز العمال)

حدیث قدسی تھا رب تعالیٰ ارشاد فرمائی کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي یعنی مَنی رحمت مَنی غضب و قہر چے بُر زے۔ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ برات حضرت مولانا حسن رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ وتی نعتیہ دیوان "ذوق نعت تھا اللہء بارگاہ عرض کاں

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي تُو نے جب سے سنا دیا یا رب
آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب (ذوق نعت)
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

قصہ یک عاجزی بندہ

وشیں و شیں اسلامی براتاں! یقیناً اللہء رحمت باز باز مَرَنیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ وتی مردمانی کسانے نیک عمل اور کسانی نیکی چے ہما حد تک خوش و راضی بی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیا ہما حد تک نوازی کہ اوداء انسان و ہم و گمان بی نر و۔ ہی وڑے یک قصہ "کتاب التوابین" تھا آست کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمائی کہ بنی اسرائیل و دو مرد آدم مسیت و رواں یکے مسیت و داخل بی بلے دومی مرد خوف خدائے چے وتی پادء داری کہ ماگناہ گار اے لائق نیاں کہ ماوتی گندے و جودء گوں و پاک و مقدس اللہء لوگا بر رواں اللہ عَزَّوَجَلَّ ایشےء عاجزی بعض شَر گئی اور ایشےء نام صدیقین یعنی وتی سچے مرد و مانء نام تھا درج کاں۔ (کتاب التوابین ص ۸۳) یقیناً صدیق ولی اور شہید چے زیادہ درجہ داری۔

قصہ یک شرمندہ انسان

ہے وڑا یک قصہ کتاب التوابین صفحہ ۸۳ تھا لکھتا کہ یک اسرائیلی مرد آدم چے گناہ سرزد بی۔ و گناہ رند ایشا وتی گناہ احساس بی۔ ایے رند شرم سار و بیقرار بیتا اور ادا

فرمانِ مُصطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : میں سرادروہ بازوانے اے شواسطہ طہارت۔ (ابو یعلیٰ)

اُوڈا رَوگا گئی کہ اشی گناہ معاف ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ راضی ہی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ بارگاہِ رحمت اشی بےقراری و شرمندگیء شرف قبولیت حاصل بیتا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایٹاں راولایتِ اعلیٰ ترین رتبہء صدیقیتء گوں نواز تا۔

شرمندگی و تَبِکِ تَوْبَہِ

سردار دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرمان خوشبودار کہ اَللّٰہُمَّ تَوْبَۃً یعنی شرمندگی و توبہ (المستدرک ج 5 ص 346 حدیث 7687)۔ حقیقت ہے کہ بعض اوقات گناہانی سر اشرمندگی و ندامت انسانء ہما مقام درجہ تک رَسینی کہ انسان عبادت و ریاضت ہے مقام و رتبہ تک نرسی۔ بلے گپ ہر گز اے مطلب نئے کہ کسے عبادت کنگ ہی نلوثی، اے (درست) کل گپ اللہ عَزَّوَجَلَّ مشیت سراستیں، کدی شرمندگیء گوں کاربی کدی عبادتء گوں کاربی۔

روزہ داریں دُر

روض الریاحینء تہا حضرت سیدنا حضرت ابو بکر شبلی عَلَیْہِ سَلَامُ اللہِ التَّوَالِی فرمائی کہ ما یک قافلہء ہمراہ ملک شام رَوگا بوتگاں کہ نیم راء ذالیر یعنی دُرئی یک ٹولی میء سراحملہ کاں میء دُرست ساز و سامان و ردنا مارا چے زور اں وتی سردارء خدمتء پیش کئاں۔ سامانء تہا یک تھیلیء بادامء اور یک تھیلیء شکرء ایشانی دَسْت کپی۔ دُرانی ایے ٹولی اِشاں وَرگا لگاں بلے اِشانی سردار نہ وارتا، اے بزرگ اِشانی سردار چے جُسْت (پول) کاں کہ تہی ٹولیء تمامیں مردم وَرگا مصروفان تُو چہ پے وتی دَسْت دَاشگاں یعنی تُو پَرچے نَوَر گئے۔ سردارء جواب داں کہ مروچی ماں روچگاں۔ مناجیرت بی ما سردارء جُسْت (پول) کناں کہ تُو مردماں لُٹے اور روچک بی دَارے۔ سردارء بزرگا

فرمانِ مُصطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: شامِ ہند اب اسے مین سرد رو دووانے شائے درود مناسی۔ (طبرانی)

جواب داتاں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ گوں صَلَّی یک راہ قائم کنگ لوٹی۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی فرمائی کہ کئی مُدَّت رنداءِ سرداءِ احرامِ حالتِ طواف خانہ کعبہ گندی اے وقتِ ایشیہ دیم عبادتِ چے پُر نور اور مجاہداتِ وجہ بعض کمزور و ضعیف بُوتا۔ ماءِ سرداءِ گنداں توجست (پول) کناں کہ تُو ہما دُرانی سردار تُوئے؟ سردار جواب داں جی اوما ہما ہوں اور تُو گوش بیدار کہ ہما رُوچگا مینی اور اللہ گوں صَلَّی کنا نیت۔

(روض الریاحین ص 293)

ہر سہ شنبہ رُوچک بیدارے

وشیں و شیں اسلامی براتاں! معلوم بیت کہ گدی بی کوئی بی کسانِ نیکِ معمولی سمجھی یل دیک نلوٹی چے خبر کسانِ معمولی عمل اللہ بارگاہِ قبولیتِ درجہ بیداری اور دُویں جہانِ کامیاب و کامرانِ بہتے۔ قصہ تہا نفلی رُوچکِ اہمیت معلوم بیت اگا کسی زیادہ نفلی رُوچک داشت نکاں تو کم از کم پیر شریفِ رُوچکے ترکیب کنگ لوٹی کہ پیر شریفِ رُوچک دارگ سنت۔ اور نیک بنگے عظیم نسخہ مدنی انعامات تہا مدنی انعام نمبر 58 بہ استیں، الحمد للہ عزوجل دعوتِ اسلامی گوں وابستہ باز اسلامی برات اور اسلامی گواراے مدنی انعام مطابق پیر شریفِ رُوچک دارگے سنت ادا کنگ اور عاشقانِ رسول ہر دلپسند (ہر دلچزین) ۱۰۰ فیصد اسلامی چینل مدنی چینل سرا ہر پیر شریف رُوچہ براہ راست (یعنی Live) مناجات افطارِ سلسلہ بیگنیں۔ اور عاشقانِ رسول افطارِ روح پرور منظر بہ چارینا۔ شامہ ثواب نیت گوں مدنی چینل گندے اور دومی مردماں بی گندگے دعوت دیتے اور ثواب عظیم خزانہ کماٹے۔

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : کہے میں سرادہ مرتبہ درود و انشا اللہ آئی سر اسد رحمت نازل کنت۔
(طبرانی)

آس پوجا کنوخیں لوگئے قبول اسلام

بیائے! ماوشا مدنی چینل یک مدنی بہارۂ اٹکنوں: بمبئی (ہند) جہا نگیر نامے یک خوبصورتیں نوجوانے فلمی اداکارۂ بیان: کہ مئے سچے لوگ ۽ مردمانی کار آسئے پوجا کنگ، ہے وقت ۽ مدنی چینل مئے واسطہ نجات پیغام بوت۔ قصہ چوں بی کہ مئی مات باز شوقاگوں مدنی چینل ۽ گندگا، یک واری من سوچتا کہ مئی مات آخر اے سبز عمامہ والی مولانہ ٹوک ۽ چپے واسطہ باز دلچسپی ۽ گوں اٹکنگیں، من گشت من گنداکہ اے مولنا چپے گشگاں! من بی T.V سرادہ مدنی چینل دیسا، مدنی مذاکرہ ۽ سلسلہ منا باز شر لگی، من باز غوراگوں مدنی مذاکرہ اٹکنگاں مدنی مذاکرہ ۽ ٹوک تاثیر ۽ تیر بت منی جگر پیوست بوتگاں منی دل ۽ دنیا زیروزبر بوت منی ضمیر اگشتا: جہا نگیر! تو غلط راہ سرا جڑ گے، اگر ترا نجات گزریں تہ سبز عمامہ والیاں نی دین یعنی دین اسلام قبول کن، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ من دعوت اسلامی ویب سائیٹ www.dawateislami.net سر رابطہ کتا اور من مسلمان بوتگاں۔ من دعوت اسلامی ۽ اشانتی ادارہ مکتبۃ المدینہ سرا بہ رابطہ کتا، اشاں منی باز راہنمائی کتا، اشانی حسن اخلاق منا باز متاثر کتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ رحمت گوں مئے سچے لوگ اسلام ۽ دامن گوں وابستہ بوت۔ من شپ سئے سئے (3) بجہ تک مدنی چینل سرادہ مدنی مذاکرہ دیسا، یک واری ریش ایر کنگے ترغیب اٹکنٹ من بہ وتی ریش ایر کنگاں۔ اور بمبئی ۽ دعوت اسلامی عاشقان رسول ۽ صحبت تہا اسلامی نظریات اور نماز وغیرہ عبادات تعلیم حاصل کنگاں۔

مدنی چینل لائے گاسنت کی گھر گھر میں بہار

کردے مولیٰ دو جہاں میں ناظرین کا بیڑا پار

فرمانِ مُصطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : کے کرامتیں ذکرِ بیسا اور ایامیں سرادروندہ وانتانہ ہمارے دہائی تھا کہ جس ترین و مردے۔ (ترغیب و ترہیب)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

وشیں و شیں اسلامی براتوں! ٹوک (گپ) باز دور بوت، آل روزہ و برکت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ رحمت و تکرہ بیگا، سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! ڈاکو آنی سردار روزہ برکت گوں تاں جگہ شہ تاں جگہ رستا۔ روزہ و برکت گوں اشیاء ہدایت بہ ملسا اور عبادت و ریاضت و سعادت بی ملسا۔

بخشش بہانہ

کیمائی سعادت و تھا حضرت شیخ کتانی قَدِسَ سِرُّہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے کہ ما حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلیہِ سَلَام اللہ اہلای وفات و رند و آب دیتا تو ما جسٹ (پول) کناں مافعل اللہ بک؟ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ترا گوں چے معاملہ کت؟ حضرت جنید جواب داتاں کہ منی عبادت و ریاضت تو انجو کار و نیت کاں البتہ شپ و نیم و پاد بوت دو رکعت نماز تہجد ادا کت اے منی بخشش و مغفرت سبب بوت۔ (کیمیائی سعادت ج 2 ص 1007)

رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہانہ می جوید

(یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ رحمت بہا یعنی قیمت نہ لوٹی بلکہ اللہ رحمت بہانہ لوٹی) و شیں و شیں اسلامی براتوں! معلوم بیت کہ نماز تہجد و تی یک خاص برکت و فضیلت آست۔ مارا شمارا لوٹی کہ فرائض عبادت و گوناں نفلی عبادت و عادت بتائینگ لوٹی خصوصاً نماز تہجد ہر گز مبلے۔ چے خبر کہ شپ و نیم دو رکعت و محنت و مشقت اللہ بارگاہ مقبول بی اور اللہ ہی نماز خاطر ہیے مغفرت بیکاں۔

بعض مسلمان ضرور دوزخ رواں

وشیں و شیں اسلامی براتوں! و اعطاء چے کسے خیال مکاں کہ اللہ رحمت بعض مزنیں

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: ہمارے پوز خاک ۳ تہارو کہ ہائی کرامتیں ذکر بیت اور ایامیں سرا درود نہ واتنا۔ (حاکم)

ء لہندہ فی نمازاں بہ یلاداد۔۔۔۔۔ رمضان ء روزہ بہ نہ داری۔۔۔۔۔ T.V اور انٹرنیٹ سرافلمیں ڈرامہ بہ گندی۔۔۔۔۔ خوب بد نگاہی بہ کس۔۔۔۔۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ء رحمت باز مزنیں فی مات و پت بی ستائیں۔۔۔۔۔ خوب زاہ بد بی کس۔۔۔۔۔ کثرت گوں دروغ بہ گش۔۔۔۔۔ مسلمانانی خوب غیبت بہ کس۔۔۔۔۔ مسلمانانی دل آزار دے۔۔۔۔۔ بساخلاقی ء سابقی کل ریکارڈاں بہ بھور بنی اللہ عَزَّوَجَلَّ رحمت باز مزنیں۔۔۔۔۔ ریش بہ سایا کسن کس۔۔۔۔۔ دُزی بی کس۔۔۔۔۔ ڈاکہ بہ جن۔۔۔۔۔ ظلم و ستم کس۔۔۔۔۔ خوب شراب ور۔۔۔۔۔ جو الیب کن بلکہ جوا اور منشیات اڈا بہ بوڑ (بچ کن)!۔۔۔۔۔ ہما گناہ کہ تو مروشی تک نہ سنگاں مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہما بہ کس بچھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ء رحمت باز مزنیں۔ و شیں و شیں اسلامی براتاں! اللہ عَزَّوَجَلَّ شماسرا فضل و کرم بی کس اور شمنے بے حساب بخشش کس، امین۔ اے وڑاء شیطن شامگوش گیر شاموٹی اطاعت تہا دا۔ یاد کنے! اللہ عَزَّوَجَلَّ رحیم و کریم استنن تہ جبار و قہار بہ استیں، نکتہ نواز بہ استیں تہ بے نیاز بہ استیں۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کسانے گناہے سرامنے گرفت کاں تہ مئے چے حال بی۔ خبردار! خبردار! خبردار! اے طے بوت کہ باز مسلمان وتی گناہانی سبب جہنم تہا داخل بیاں۔ ماراوشمار اللہ عَزَّوَجَلَّ خفیہ تدبیر اشہ ہر وقت لرزگ و خوفزدہ بیگ لوٹی اے وڑاء مبی جہنم تہاروگ والی مردمانی لسٹ تہا مئے نام بی شامل بی۔

فاروق اعظم مدنی سوچ

امام العادلین، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ؓ مدنی سوچ سراج قربان بے کہ اللہ ؓ چے اُمید اور ترس بنی تو عمر فاروق ؓ وڑے۔ حضرت عمر فاروق ؓ مدنی اللہ تعالیٰ عنہ گشت ؓ کہ اگا اللہ عَزَّوَجَلَّ درست مردماں شہ صرف یک مردے

فرمانِ مُصطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے میں سر اجمہ روح دو صد مرتبہ درود و انتہا شیئہ دو صد سال گناہ معاف سینت۔ (کنز العمال)

جہنم داخل کننا تہ مناثرس کہ چوں مبی آن مردم من بیاں۔ اگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی کہ ماؤرست مردماں چے فقط یک مرؤمء جہنم شہ محفوظ کنناں تو من امید کنناں کہ ایک مرؤ آدم منا جو ما جنتء داخل بیاں۔ (حلیۃ الاولیاء ج 1 ص 89) بہر حال اللہء رَحْمَت باز مزینں نارا شمار رحمتِ الہی چے نا امید بیگ نلوئی اور نہ ہی اللہء قہر و غَضَب چے بے ترس بیگ لُوئی۔

ٹینگ (بندوق) یک تیر۔۔

حضرت عمر فاروقء ماشاراوتی عقلی دلیل چے سمجھا بگاں کہ گپء مثالء ماء وڑا دیاں کہ اگا یک اجتماع تہا دہ ہزار اسلامی براتانی موجودگی تہا کسے قریبی لوگے چھتء سراسوار بی پستول زوری اے اعلان بیکاں کہ ما فقط یک تیرء اجتماع تہا موجود اسلامی براتانی تہا بیل دیاں یعنی کہ اگا مان بی کئے تو صرف یک اسلامی براتء جان ضائع بی دیگے دُرستء فی جان محفوظ بیاں یعنی دیگے کسا نقصان نبی۔ کئی فکر بی کئے کہ تیرء نشانہ فقط یک مرؤم بی چے دیگے اجتماع مردم بے ترس و بے پرواہ بیاں یقیناً ہر یک وتی جانء حفاظتء خاطر ترس لرز پریشان جا کئے کہ کجا ما تیرء نشانہ مے۔ تا امید کنناں کہ مثال میں شمیمے سمجھا لنگ۔

آس چیل (پاز گزار)

یاد کئے! اے طے شدہء کارین کہ بعض مسلمان وتی گناہانی سبب جہنم تہا رواں، تو آخر ہر مسلمان اے ٹوک شہ چے واسطہ نہ ترسی کہ چوں مبی کہ من جہنمء تہا رواں اللہ عَزَّوَجَلَّ قسم! ٹینگ تیرء تکلیف جہنم عذابء مقابلہ بچ بہ نیستیں۔ مسلم شریف تہا استء کہ

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: میں سر اور دودوانے اللہ شائے سر رحمت نازل کیں۔ (ابن عدی)

دُوزخِ دُرستائ چے سُکے سِزا/ عذاب ہمیشے کہ دُوزخی مردمان آسِ چیل پا دا دِیگ
بی۔ ایشے گرمی و جہ چے دماغ منجل وڑا گردگ بی سزا یافتہ انسان تھی خیال کاں کہ
دُرستائ چے سُکے عذاب ہمیشے کہ جو ایٹا دِیگ بیا گئے۔

بخاری شریف تھا استء کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامتِ رُوجاء انسان چے جست کاں دُنیا ایشے
تھا موجود ہر چیز جو تھی اختیارِ استائ۔ چے ء تمای مال و ملک ء عذابِ عیل دیکے خاطر قربان
کئے؟ تُو ء گنا گار ء انسان جواب داں کہ اے رب کریم ماء آسِ چیل ء عذاب چے بچا گے
خاطر دُرست مال و ذراں قربان گناں تاکہ ء عذاب چے محفوظ میناں۔

(بخاری ج 4 ص 261 حدیث 6557)

چے کل شہ سُبکے عذاب برداشت بی؟

وشیں و شیں اسلامی براتاں! سوچے! بار بار سوچے! کہ اگا ما کسانِ گناہ نی وَجہ
دُوزخِ سُکے عذاب تھا گر قار بیئے تُو ما ایشا برداشت کُت کئی؟ مثلاً کسے زاہد کنگ کہ اے
باز کبیرہ گناہ ء اشی وجہ اگا اے جرم سزا تھا کل شہ سبکے عذاب بی ملی توچے بی؟ مات و پت ء
ایذا و تکلیف ء وَجہ اے باز کبیرہ گناہ ء اشی وجہ اگا اے جرم سزا تھا کل شہ سبکے عذاب بی ملی تہ
شمار برداشت کُت کئے، اے وڑا، ہر روچ بیگ والی گناہانی سرا بہ غور کئے، دروغ گنگ وجہ،
کسے غیبت کنگ وجہ، چغخوری کنگ وجہ، حرام مال و زر کمائیگے وَجہ، فلم ڈرامہ ساز و گانا
چارگ ء و گوش دارگ ء وَجہ T.V سر صرف زائیفہ (جنی آدم) شہ خبرانی اٹکنگ وجہ اگا
دُوزخِ سُکے عذاب تھا گر قار بیئے تُو ما برداشت کُت کئے؟ اور آں (زائیفہ) جنی آدم بہ
باز بد نصیب ء کہ چند زرائی خاطر T.V سر اکائی خبراں اٹکننائی۔ کاش! ایشا اے احساس بی کہ
بعض مردم مئی خاطر بد نگاہی ء گناہ کنگاں، وتی چماں حراما گوں پر کنگاں، جہنم آسپر کنگاں،

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: میں سراباز درودوانے بیشک شائے میں سرادرو وواگ شائے گناہاں پہ مغفرت آتیں۔ (جامع صغیر)

اور اے وجہ من بہ باز گناہگار بیگاں! بہر حال ہام مردم اے وڑاوتی دلار الیب دارگس کہ من تو صرف خبرانی اشنگ واسطہ T.V ایرکتا، گوش بیدارے کہ غیر محرم مرد آدمے غیر جنی آدمے چارگ اور غیر محرم جنی آدمے غیر محرم مرد آدمے چارگ شہوت و نیت و حرام گناہ کار چے خبر کہ ایک نگاہ میں واسطہ دوزخ و رداگے وجہ ہی۔ بدنگائی و وجہ آگا دوزخ و آس و چپل و عذاب و تہا بٹلا بیٹے تو چے ماء سزا و برداشت کت کتے؟ وتی تہا اصلاح و جذبہ بیدار کنگ واسطہ اتی ذہن بنائنگ لوٹی اگر بغیر شرعی عذر من نمازے جماعت یلداتاتے، اور کل شہ سبکے عذاب منامسا تہ منی چے حالت بی!! اگا من بے پردگی کتا یاوتی بار تے لوگی (بھابی) گوں بے تکلفی کتا یا بلا وجہ چارتا، اے وڑا و چاچی، مامی، سالی، ماسی و جنک، مامائے جنک، پٹی و جنک چاچا و جنک شہ پردہ نہ کتا اور اشنائی دیمابے تکلفی و گوں آگ رَوگ بوت، اور اے درستانی چارگ بوت، اور اشناں گوں کندانا ٹوک کنگ بوتاتہ اے درستی گناہاں شہ اگر یک گناہے من کتا اور اشنائی وجہ منا آس و (جتی) باز گزار منا عذاب طور ملساں تہ میں چے حالت بی؟ جی ہا! بھابی (نشار)، چاچی، مامی، وغیرہ وغیرہ ہما جنی آدم (زانیفانی) من ے ذکرہ کتا اے درستی اجنبی اور غیر محرمائیں ذائفہ استاں مے درستاں شہ شریعت و پردہ حکم داسا، اور ہما ذائفہ شہ بہ پردہ کنگ لوٹی ہمایاں گوں کہ سیر کنگ جائزیں۔

دوزخ و خوفناکیں عذاب و جہلکی

وشیں و شیں اسلامی براتاں! شتا و سارا کم از کم کسانے اور سبکے عذاباں شہ تر سینے، حالانکہ دوزخ و تہا باز خوفناکیں عذاب استاں، چنانچہ دعوت اسلامی و اشنائی ادارہ مکتبۃ المدینہ و مطبوعہ کتاب بیانات عطاریہ جلد 2 صفحہ 293 شہ 297 سر 11 ستین کہ: ہما ہرم باز

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: میں سراباز دودوانے پیک شائے میں سرادرو دوانگ شائے گناہاں پہ مغفرت استیں۔ (جامع صغیر)

عجیب ہے کہ ہمائیائے خبر بہ استیں کہ دوزخ سخت ترین عذاب ہے مقامِ استیں اشی باوجود بہ گناہاں کنگے۔ و شیں و شیں اسلامی براتیں! اگر دوزخ شیش و ٹنگ (سورخ) برابر بوڑجانی تہ زمین در ستیں مخلوق اشی گر میاگوں ہلاک بی۔ دوزخ والی مردماں اے وڑاے خطرناکیں آپ ملی کہ اگر اے آپ یک ڈول اے دنیا تہا کسے رے چہ تہ دنیا در ستیں کشار و فصل برباد بیاں نہ اناج بی نہ ثمر بی۔ دوزخ سیاہار اور زیم بے حد خوفناک استاں۔ حدیث شریف استیں کہ: دوزخ تہا عجی وڑاچی وڑا مزائیں مزائیں سیاہار استیں، ہے دوزخیاں ڈنگ جناں، ہما اے وڑا زہر یلا استاں کہ اگا کسے ڈنگ جناں تہ اشی ذہر تکلیف چل (40) سال تک بی، اور لگام والی خچرانی وڑا مزائیں مزائیں زیم دوزخیاں ڈنگ جناں تہ اشی ذہر تکلیف چل (40) سال تک بی۔ (مسند امام احمد ج ۶ ص ۲۱۶ حدیث ۱۷۷۲۹) ترمذی روایت تہا استیں کہ دوزخ تہا صعود نامے یک جبل استیں اشی بلندی 70 سال سفر برابر استیں، کافرین دوزخی اشی سرا سوار بیاں 70 سال شہ رند جب اے بڑزار ساں تہ اشناں جہلا یلا دیاں تہ 70 سال تہا واپس جہلا کایاں اے وڑا اشناں را عذاب بی۔ (ترمذی ج ۳ ص ۲۶۰ حدیث ۲۵۸۵) دوزخ اے وڑا خوفناک عذاب تذکرہ اٹکنگے باوجود بہ مردم گناہاں کنگاں۔ آخر اے دنیا انسان راچے دا کہ مردم اشی رنگینیاں نی تہا گار بوتگاں اور اشی لوٹ مار تہا مصروف بوتگاں۔

دوزخ خطرناکیں ورگ (خوراک)

شریں خوراکاں نی ورگ والی مردماں دوزخ خوفناکیں خوراکاں نہ شمسے! ترمذی روایت تہا استیں کہ: دوزخیاں نی سراجب شز (شد) مسلط بی تہ شز ہمار ستیں عذابانی برابر بی کہ ہماہانی تہا اے دوزخی استاں۔ جب دوزخی فریاد کنما مارا کوئی چیزے ورگ واسطہ دے تہ

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : کہے میں سر ایک درود وانی ہمائی خطر یک قیر اظہا جر کھنگانی اور یک قیر اظہا (عبدالرزاق)

اشان را صَّرِیع نامے یک زہر یلائیں کنٹخ والی ریمء ورگ واسطہ دیاں، اے ریمء گوں نہ اشانی لاپ پر بی نہ اشانی شز گار بی۔ دوزخی دوبارہ خوراک لومنت تہ اشان را گئسے تہا بچخ والی ورگ دیاں ہما کہ پھانسی ۽ پھند اوڑا اشانی گٹ ۽ تہا بند جابی، اشان را یاد کنسے کہ جب دنیا تہا مئے گٹا کوئی چیزے بچے تہ ما آپ وارت ہما تنگی دور کو، تہ اے دوزخ تہابی آپ طلب کنناں تہ اش را سخت گر میں آپ ملی، اے آپ را وتی دیسے نزدیک کننا تہ دیسے گوشت پشجابی روی، جب ورنقی تہ لاپ ۽ تہا ہر چیز ۽ بر جابی (گڈ جابی) روی۔ (ترمذی ج ۳ ص ۲۶۳ حدیث ۲۵۹۰) یک دوہمی حدیث ۽ تہا استیں کہ زَقُوم (یعنی یک زہر یلائیں در بکھے اشیا را تھوہر بہ گشائ) اگر اشی یک قطرہ ۽ (ترمپ) اے دنیا تہا پر یجابی تہ اے دنیائے کل خوراکانی ذائقہ (چس) خراب بی روی کل چیز زہر یلایاں اور بد بودار بیاں، آہ! دوزخ تہا اے وڑائیں خطر ناکیں عذابانی باوجود بی مردم گناہاں کنگاں؟

نہ مایوس بیئے نہ بے خوف بیئے

وشیں و شیں اسلامی براتاں! مارا شمارا اللہ ۽ رَحْمَت ۽ چے نا اُمید بیگ نَلُوئی اور ناہی ایسے قہر و غضب چے بے ترس بیگ لُوئی دُوئیں نیگا بعض دفعہ مئے واسطہ تباہی و بربادی ثابت بی۔ اگا کسے نا اُمیدی اور مایوسی ۽ وَجہ کیشتر گناہنی تہا بُرو شپ و روج گناہنی سرا گناہ بیکاں اور بھی گناہنی حال ۽ تہا اگا موت واقع بی تو یقیناً تباہ و برباد بی۔ بہر حال غیرت و مروت تقاضا ہمیش کہ اللہ تعالیٰ جو کریم و مہربان مارا شمارا تو فی فضل و کرم چے بے حدو بے حساب نِعْت ۽ چے سر جم بر جم کونگے مارا شمارا ہما خدائے عبادت و اطاعت فرمانبرداری اور ایسے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سُنَّتانی سرا عمل

اَفْرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے میں سر کتاب، تہادود کھسا کر چے میں نام کتاب تہانی فرشتہ اشقی
واسطہ استغفار کنا۔ (طبرانی)

اور ہما حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دَاَمْنِ کرم و رَحْمَتِ چے ہر وقت جُڑگ لُوٹی کہ
نہی ذات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم چے جُڑگ دنیا وامر وزء کامیابیء یک راہء۔

کب گناہوں سے کنار میں کروں گایارب
نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گایارب
کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں
کب میں بیمار مدینے کا بنوں گایارب
غنوکر اور سدا کے لئے راضی ہو جا
گر کرم کردے توجنت میں رہوں گایارب۔

وشیں و شیں اسلامی براتاں! وتی بیان ء ختم کنگا چے پیشتر کئے سنت ء فی فضیلت اور
آداب بیان کنگے کوشش کنان توجہء سرا گوش بدارے مکہ مدینہء سردار، دو جہان ء مالک و
مختار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرمائی کہ "کسے منی سنت ء گوں محبت کا ء منا گوں
محبت کاں کسا منا گوں محبت کو ء انسان بہشت ء منی ہمراہی" (ابن عساکر ج ۹ ص ۳۴۳)

سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا

جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا

عیادت کنگ رسولِ محترم ء سنت مبارکہ استیں

سی او یک حرف ء نسبتا گوں عیادت ء 31 مدنی پل

8 فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (1) عُوْذُو الْبَرِیْضِ یعنی مریض عیادت کئے۔
(الادب المفرد ص ۱۳۷ حدیث ۵۱۸) (2) ہر کسے مریض ء عیادت کنگ واسطہ روا اللہ عَزَّوَجَلَّ اشقی سرا

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے میں سر ایک واری درود پاک والی اللہ ہمائی سر ادھر رحمت نازل کنت۔ (مسلم)

75000 فرشتاں گوں سایہ کنت، اور اشی ہر قدم زیر گ سر ایک نیکی لکھی اور ہر قدم ایر کنگا گوں یک گنا ہے معاف کنت اور یک درجہ بلند کنت جب تک ای وتی جا گاہ بے نندی، جب نندی تہ رحمت اشیا ہر ظرفہ شہ گھیر اکنت اور وتی لوگ واپسی تک ای رحمت تہابی۔ (مجم الاوسط ج ۳ ص ۲۲۲ حدیث ۴۳۹۲) (3) ہر کسے مریض عیادت واسطہ روتہ آسمان شہ یک منادی عیادت ندا کن: تر ابشار بی (یعنی خوشخبری) تئی جُزگ شریں جُزگے اور تہ وسی واسطہ جنت تہا یک منزل تھکائے بنائنتا۔ (ابن ماجہ ج ۲ ص ۹۲ حدیث ۱۴۴۳) (4) یک مسلمانے دومی مسلمانے عیادت کنگ واسطہ سہب ء رو، تہ شام تک 70000 فرشتہ اشی واسطہ استغفار کناں (یعنی بخشش دعا)، اور اگر شام ء وقت ء روتہ سہب تک فرشتہ اشی واسطہ اتغفار کناں اور اشی واسطہ جنت تہا یک بارغ۔ (ترمذی ج ۲ ص ۲۹۰ حدیث ۹۷۱) (5) ہر کسے شریں طریقہ غوں وضو کتا اشی رند وتی مسلمان برات ء ثاب ء نیت گوں عیادت کتا تہ دوزخ شہ 70 سال فاصلہ تک دور بی۔ (ابوداؤد ج ۳ ص ۲۳۸ حدیث ۳۰۹۸) (6) جب تو مریض ء کرا برائے تہ مریض گش تئی واسطہ دعا کن کہ اشی دعا فرشتانی دعا وڑاء۔ (ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۹۱ حدیث ۱۴۴۱) (7) ہما ودا مریض تندرست مبی ہما ودا تک ایانی ایچ دعا رد نوی۔ (الترغیب والترہیب ج ۴ ص ۱۶۶ حدیث ۱۹) (8) جب یک مسلمانے دومی مسلمانے عیادت واسطہ روتہ اے دعا 7 مرتبہ والی **اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَك** ترجمہ: من عظمت والی عرش عظیم ء مالک اللہ عَزَّوَجَلَّ شہ تئی واسطہ شفاء سوال کنگاں، اگر موت نہ آتک تہ شفا ملی۔ (ابوداؤد ج ۳ ص ۲۵۱ حدیث ۳۱۰۶) (9) مریض ء عیادت کنگ سنت استیں مگر شما اے معلوم بوت کہ شمائے روگا گوں مریض بور بی تہ شمانہ بروئے۔ (بہار شریعت ج ۳ ص ۵۰۵) (10) اگر مریض ء گوں شمائے دل رنج استیں یا شمائے مزاج ایسا گوں اور نہ بی اشی باوجود بی

فرمانِ مُصطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کے میں سر اور دو انگ شمشتا ہائیاں جنت و رستہ شمشتا۔ (طبرانی)

شما عیادت واسطہ بروئے۔ (11) اتباعِ سنت واسطہ عیادت کئے، اے واسطہ نہ کہ اگر من بیمار بیاں تہ اے بی مئی عیادت کنگا کئے، تہ اے نیت گوں شمارا ثواب نہ ملی۔ (12) اگر شما کسے عیادت واسطہ روئے تہ اور شما گندے کہ اشی مرض باز سختیں تہ شما تُرس و خوف والی ٹوکاں نہ کئے مثلاً تئی حالت باز خرابیں اور نہ اے وڑاء شما وتی سفر احرکت دیتے کہ شماے اے اندازا گوں مریض و حالت خراب بیگ معلوم بی۔ (13) عیادت موقع سرا مریض و یا دکھ والی مرد مئے کرا شما وتی دیئے سرارنج و غم و ظاہر نہ کئے۔ (14) ٹوک توار و اے انداز مبی کہ مریض یا اشی عزیز و اے وسوسہ بے کہ اے مئے پریشانی سرا خوش بینگیں۔ (15) مریض و لوگ و مردماں گوں ہمدردی و اظہار کئے اگر خدمت یا تعاون کت کئے تہ ضرور کئے۔ (16) مریض و کرا بروئے طبیعت پرس کئے اور اشی صحت و عافیت واسطہ دعا بہ کئے۔ (17) نبی رحمت شفیع امت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عادت مبارکہ چوں است کہ جب مریض عیادت کنگا روگ بی تہ اے وڑاء فرمائنٹا۔ لَا بَأْسَ ظُہُورَ اِنْ شَاءَ اللہُ تَعَالٰی (بخاری ج ۲ ص ۵۰۵ حدیث ۳۶۱۶) ترجمہ: کوئی وزت نئے اگر اللہ پاک مرضی بوت تہ اے مرض گناہاں (شہ) پاک کنگ والا استیں۔ (18) مریض وتی واسطہ دعائے خاطر گنشے کہ مریض و دعا رد نہ بی۔ (19) فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: مریض و درستیں عیادت اشیں کہ مریض و انیشگ سرا وتی دست و ایر کئے مزاج پر سی کئے۔ (ترمذی ج ۳ ص ۳۳۴ حدیث ۲۷۴۰) مُفسِّر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَیْرَان اے حدیث تہا فرمائنٹا: جب شما کوئی بیمار مزاج پر سی واسطہ بروئے تہ اشی انیشگ سرا وتی دست و ایر کئے اور زبان گوں جست (پول) کئے (تئی طبیعت تُنئے)، اے وڑا مزاج پر سی و گوں مریض و باز تسالی ملی اور شما دست و باز دیر

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے کرامتیں ذکر بیسا اور ایمانیں سر اور دہ و انتا تحقیق ہما بد بخت بی۔
(ابن سنی)

تک نہ ایر کئے، اے دست ایر کنگ صرف محبت ظاہر کنگ واسطہ استیں۔ (مراجعہ ص ۳۵۸، ۳۵۹: ۳۵۸: ۳۵۹)

(20) مریض ء کراے وڑاء ٹوکاں کئے کہ اشئی دل خوش بی، بیماری ء فضائل اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ء رحمت ء تذکرہ کنگ لوٹی تاکہ اشئی ذہن آخرت ء ثواب تکامیل بی اور اے شکوہ و شکایت والی ٹوکاں نہ کنت۔ (21) عیادت کنگ دوران مناسب موقع سرا مریض ء رائیکی دعوت بہ دیتے، خصوصاً نماز پابندی ء ذہن بنائے کہ بیماری دوران بازیں نمازی بہ وقتی نمازاں شہ غافل بیاناں۔ (22) مریض ء مدنی چیمیل چار گے (گند غے) ذہن بہ دیتے اور اشئی برکتاں شہ بہ آگاہ کئے۔ (23) مریض ء مدنی قافلانی تھا سفر کنائے اگر سفر کنگ قابل نئے تہ اشئی لوگئے مردم ء کسے سفر کنائے ترغیب دلائے، اور مدنی قافلانی ہما مدنی بہار ان اشکنائے کہ ہماہاں فی تہاد عانی برکتا گون مریضاض شفا ملتا۔ (24) مریض ء کرا باز دعر نہ نندے، اور نہ شور و غل کئے، ہا اگر مریض وت گشی کہ میں کرانند تہ ممکن صورت تھا شاماشی جذبات ء احترام کئے۔ (25) بعض مردمانی عادتیں کہ مریض یا اشئی نمائندہ رابار بار مشورہ دیاں کہ تو اے وڑا علاج کن، اور مریض ء گون اصرار کنگ کہ چوں من گشاں ہے وڑا علاج کن، اے دوا استعمال کن تو ذراہ بے روے! مریض ء رالوٹی کہ ہر کسے مشورہ سرا عمل نہ کنت، بلکہ ”نیم حکیم خطرہ جان“، علاج شہ پیشتر وتی طیب ء گون مشورہ لازمی کنگ لوٹی۔ خبردار! آں کہ طیب نہ بنگ باوجود علاج ء مشورہ دا تہ شاماشی شہ دور بے۔ (26) شامایادت واسطہ روگے تہ مریض ء واسطہ ثمر (فروٹ) یا بسکٹ وغیرہ بطور تحفہ برے تہ می شامار مشورہ استیں کہ مکتبہ المدینہ شہ بعض مدنی رسائل بہ برے مریض ء پیش کئے، تہ آں وتی ملاقاتیاں، (اور اسپتال تھا استیں) تہ وتی نزدیکیں مریضاض اور ایٹانی عزیزاں بطور تحفہ دا۔ بلکہ زہے نصیب!

فَرَمَانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: کسے نہیں سرا سراجِ داہ واری اور شامِ داہ واری درود وانی اشیا قیامت و روج میں شفاعت ملی۔ (مجمع الزوائد)

مریض و ت بہ بعض مدنی رسائل لوٹا سنی وتی کرا اے غرض گوں ایر کنت ثواب کما سنی۔ (28) فاسق و عیادت بہ جائز استیں کہ عیادت اسلامے حقوق شہ استیں اور فاسق بہ مسلمان استیں۔ (بہار شریعت ج 3 ص 505) (29) مُرْتَد اور کافر حربی و عیادت کنگ جائز نہئے، (اور فی زمانہ تہادنیاء کل کافر حربی استاں)۔ (30) بد مذہب (غیر مرتد) عیادت کنگ منع استیں۔ ایگے بعضے سنت سکھتگ و واسطہ مکتبۃ المدینہ و جوڑ کتگی دو کتاب (1) 312 صفحات کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور (2) سنتیں اور آداب ہدیہ حاصل کئے۔ اردو زبان و تہا موجود است ضرور اے کتاباں وانے۔ دعوت اسلامی و مدنی قافلہ و مدنی تہا اسلامی برساں گوناں سفر سنت دنی تربیت یک بہترین ذریعہ۔

لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو	سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو	ختم ہوں شامیں قافلے میں چلو
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!	صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد
تُؤْبُوْا اِلٰی اللہ	اَسْتَغْفِرُ اللہ
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!	صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد


اے رسالہ وانے دوہی کسے بہ دیتے

سیرے یا غمی تقریب، اجتماعات، عرسے اور جلوس میلاد تہا مکتبۃ المدینہ و شائع کتگے رسائل اور مدنی پل سرا مشتمل پمفلٹ تقسیم کئے ثواب کما سنے، مرد ما ثواب نیت گوں تحفے طور بہ دیتے، وتی دکانانی سرا بہ رسائل ایر کنگے معمول بنا سنے، اخبار والا یا چکانی دستا وتی محلہ تہا ہر لو گایک عدد رسالہ ہر ماہ مدنی پل پمفلٹ ذریعہ نیکی دعوت و دیتے۔

نیک نمازی بیغ خاطر

ہر خمیسے (جمعہء شپ) شپ نماز مغرب شہ رند شامی شہر دعوت اسلامی ہفت روزہ سنتانی اجتماع، اللہ رضا خاطر شریں شریں نیت گوں سچ شپ گزوازیں۔ سنتانی تربیت پہ عاشقان رسول پچیا (ہمراہ) ہر ماہ سہ روج مدنی قافلہ تہا سفر اور۔ ہر روز فکر مدینہ ء ذریعہ مدنی انعامات ء رسالہ پرکنے وتی علاقہ ء زمے دار کرا جمع کنگ معمول بنا ننگ لوٹی۔

میں مدنی مقصد: مناوتی اور سچے دنیائے مردمانی اصلاح ء کوشش کنگیے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ۔ وتی اصلاح خاطر مدنی انعامات سرائل اور سچے دنیائے مردمانی اصلاح ء کوشش خاطر مدنی قافلہ تہا سفر کنگ لوٹی۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ۔



فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net